

_____	اسکول	_____
_____	پتہ	_____
_____	تاریخ	_____
_____	حوالہ	_____
_____	آئی ڈی نمبر	_____ عزیز

مورخہ _____ (date) کو، اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے کہ آیا آپ کا بچہ خصوصی تعلیمی خدمات کے لیے اہل ہے یا نہیں، آپ کے بچے سے متعلق معلومات کا جائزہ لیا گیا۔

مختصر دستخط:

دستیاب تمام معلومات کا جائزہ لینے کے بعد، اس بات کا تعین کیا گیا کہ _____ طالب علم کا نام

خصوصی تعلیمی خدمات کے لیے اہل ہے۔

خصوصی تعلیمی خدمات کے لیے اہل نہیں ہے۔

اگر آپ کا بچہ خصوصی تعلیمی خدمات کے لیے اہل قرار پایا گیا تو ابتدائی اہلیت کے تعین کے لیے آپ کا اجازت نامہ درکار ہو گا۔ اگر آپ اہلیت کے حوالے سے کی گئی میٹنگ میں شریک نہیں ہونے تو براہ مہربانی منسلک خصوصی تعلیمی خدمات کی اہلیت کا فارم (10-SS/SE) پر کریں اور مختص جگہ پر دستخط کر کے اپنے بچے کے اسکول واپس بھیج دیں۔ ورجینیا میں خصوص تعلیمی پروگراموں کے قوانین میں واضح کر دیا گیا ہے کہ اہلیت کے تعین کے بعد ہر طالب علم کے لیے انفرادی تعلیمی پروگرام (IEP) تیار کیا جانا چاہیے۔ آپ کے بچے کے لیے مناسب انفرادی تعلیمی پروگرام (IEP) تیار کرنے کے لیے، میٹنگ طے کرنے کے حوالے سے اسکول کا ایک نمائندہ آپ سے رابطہ کرے گا۔ اگر آپ اپنے بچے کے پروگرام سے متعلق کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو انفرادی تعلیمی پروگرام (IEP) کے اجلاس میں اس پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ آپ کی معلومات کے لیے، انفرادی تعلیمی پروگرام (IEP) سے متعلق والدین کے لیے طے کی جانے والی میٹنگ کے ایجنڈے کی ایک نقل (IEP-101) منسلک کر دی گئی ہے۔ اگر آپ کا بچہ اس علاقے کا رہائشی نہیں ہے اور والدین نے فی الحال فیئر فیکس کاؤنٹی کے کسی نجی اسکول میں داخل کروایا ہوا ہے تو آپ کو IEP میٹنگ طے کرنے کے لیے، اپنے بچے کے رہائشی علاقے کے اسکول ڈویژن سے رابطہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کا بچہ فیئر فیکس کاؤنٹی میں واقع کسی نجی اسکول میں پڑھائی جاری رکھتا ہے تو فیئر فیکس کاؤنٹی پبلک اسکولز (FCPS) کی طرف سے انفرادی خدماتی پلان (ISP) کے ذریعے بھی یہ خدمات دستیاب ہو سکتی ہیں۔

دوبارہ چانچ:

دستیاب تمام معلومات کا جائزہ لینے کے بعد اس بات کا تعین کیا گیا کہ _____ طالب علم کا نام

کے لیے خصوصی تعلیمی خدمات حاصل کرنے کی اہلیت جاری رہے گی۔

اگر آپ کا بچہ خصوص تعلیمی خدمات کے لیے بدستور اہل قرار پایا ہے تو IEP ٹیم آپ کے بچے کے IEP کا جائزہ لینے کے لیے دوبارہ اکٹھی ہو سکتی ہے اور مناسب تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں۔ اگر اہلیت کی حیثیت میں کوئی تبدیلی پیش آتی ہے تو آپ کی طرف سے اجازت نامہ کی ضرورت ہو گی۔ اگر آپ اہلیت کے حوالے سے کی گئی میٹنگ میں شریک نہیں ہونے تو براہ مہربانی منسلک خصوصی تعلیمی خدمات کی اہلیت کا فارم (SS/SE-10) پر کریں اور مختص جگہ پر دستخط کر کے اپنے بچے کے اسکول واپس بھیج دیں۔

اب مزید خصوصی تعلیمی خدمات حاصل کرنے کے لیے اہل نہیں۔

اگر آپ کا بچے اب مزید خصوصی تعلیمی خدمات حاصل کرنے کا اہل نہیں رہا تو خصوصی تعلیمی خدمات ختم کرنے کے حوالے سے آپ کے اجازت نامہ کی ضرورت ہو گی۔ اگر آپ اہلیت کے حوالے سے کی گئی میٹنگ میں شریک نہیں ہونے تو براہ مہربانی منسلک خصوصی تعلیمی خدمات کی اہلیت کا فارم (SS/SE-10) پر کریں اور مختص جگہ پر اپنے دستخط کر کے اپنے بچے کے اسکول واپس بھیج دیں۔ تبدیلی کے اس عمل کو آسان بنانے کے لیے، خصوصی تعلیمی خدمات ختم ہونے کی مجوزہ تاریخ _____ ہے۔

یہ فیصلہ کس طرح سے کیا گیا، اس بارے میں معلومات منسلک کاغذات میں بیان کی گئی ہیں۔ اگر آپ اجلاس میں شریک نہیں تھے اور اس فیصلے سے اتفاق نہیں کرتے تو آپ اہلیت کے حوالے سے اپنے گئے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست کر سکتے ہیں۔ خصوص تعلیم کے حوالے سے آپ کے گھرانے کے حقوق (SS/SE-4) (Virginia Procedural Safeguard Notice) کی ایک نقل آپ کو پہلے ہی فراہم کی جا چکی ہے۔ طریقہ کار میں شامل حفاظتی اقدامات سے متعلق دستاویزات کی اضافی نقول آپ کے بچے کے اسکول، یا آن لائن <https://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/se4.pdf> پر دستیاب ہیں۔ طریقہ کار میں شامل حفاظتی اقدامات سے متعلق اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں یا ان حفاظتی اقدامات کی شکوں کو سمجھنے میں آپ کو کوئی مدد درکار ہے تو براہ مہربانی حسب قانون کارروائی اور اہلیت کے دفتر میں 571-423-4470 پر کال کریں۔

آپ اہلیت کے حوالے سے کیے گئے فیصلے کے خلاف اپیل کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ ایسا کرنے کے لیے آپ کو 8270 Willow Oaks Corporate Dr. Second Floor, Fairfax, VA 22031 پر واقع حسب قانون کارروائی اور اہلیت کے دفتر میں بصورت تحریری طور پر یہ اطلاع دینی ہو گی کہ آپ ایک انتظامی جائزہ، مصالحتی اور/یا ضابطے کی ایک غیر جانبدارانہ سماعت کا آغاز کر رہے ہیں۔ آپ اپنے بچے کے اسکول سے اپیل کے نوٹس (SS/SE-130) کا فارم حاصل کر سکتے ہیں۔ FCPS کی طرف سے Virginia Procedural Safeguard Notice میں درج والدین کے فیصلے پر اپیل کی جا سکتی ہے۔ اگر اپیل کا عمل شروع ہو جاتا ہے تو اپیل کے عمل کے دوران آپ کا بچہ موجودہ تعلیمی حیثیت برقرار رکھے گا ماسوائے ایسی صورت میں کہ آپ اور اسکول ڈویژن کسی اور فیصلے پر متفق نہیں ہو جاتے۔

اگر آپ کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو مجھ سے _____ پر رابطہ کریں۔

مخلص،

منسلک کاغذات

فیئر فیکس کاؤنٹی پبلک اسکولز کے طالب علموں کے تعلیمی ریکارڈ سے معلومات اس شرط پر جاری کی جاتی ہیں کہ انہیں وصول کرنے والا فرد اس بات پر رضا مند ہے کہ وہ والدین یا اہل طالب علم کی رضا مندی کے بغیر، یہ معلومات کسی دوسرے فریق کی دسترس میں جانے کی اجازت نہیں دے گا۔